



Zakat

FEBRUARY 2023

The Holy Quran/ Zakat

Self-Study / Teaching Guide

Click on each reference below to learn more about this month's verses

Al Baqarah 2:111

URDU

[Tafseer-e-Kabeer](#) (Vol. 1 pg 114-117)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 1 pg 205)

Al-e-'Imran 3:181

URDU

[Anwarul Quran](#) (Vol. 1 pg 530-532)

[Darsul Quran](#) 4 Feb 1995 (start at 26:08)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 2 pg 595-596)

At Taubah 9:75-77

URDU

[Hadiqatus Saliheen](#) #289, pg 324-330 (this hadith explains when these verses were revealed)

[Urdu Tarjumatul Quran](#) #107, 27 Dec. 1995

حضرت ثعلبہ بن حاطبؓ، خطبہ جمعہ 23 نومبر 2018ء

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 2 pg 1179-1180)

“[Hazrat Tha'labah bin Hatib^{\(ra\)}](#)” Friday Sermon 23 Nov 2018

Al Mu'minun 23:5

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 6 pg 49) (Note: one page of a longer commentary)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 3 pg 173)

[Tafseer-e-Kabeer](#) (Vol. 6 pg 127-129) (Note: start from bottom of first column on pg 127)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 4 pg 2187-2188)

An-Nur 24:57

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(New\)](#) (Vol. 6 pg 167-168)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 2 pg 231) (See also: [Sahih Bukhari Vol. 3](#) #1399, pg. 11-12 & [Gardens of the Righteous](#) #1215 pg 210)

[Tafseer-e-Kabeer](#) (Vol. 6 pg 367)

خَيْرٌ	تَجِدُوهُ	عِنْدَ	اللَّهِ	إِنَّ	اللَّهِ	بِ	مَا	تَعْمَلُونَ	بَصِيرَةً
نیکی	تم پاؤ گے	اس کو	اللہ	یقیناً	اللہ	ساتھ	اس/جو	تم کرتے ہو	دیکھنے والا

Al-e-‘Imran 3:181

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨١﴾

And let not those, who are niggardly with respect to what Allah has given them of His bounty, think that it is good for them; nay, it is evil for them. That with respect to which they were niggardly shall be put as a collar round their necks on the Day of Resurrection. And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth, and Allah is well aware of what you do.

اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے۔ بلکہ یہ تو ان کے لئے بہت بُرا ہے۔ جس (مال) میں انہوں نے بخل سے کام لیا قیامت کے دن ضرور وہ اس کے طوق پہنائے جائیں گے۔ اور اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔ اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔

و	لَا	يَحْسَبَنَّ	الَّذِينَ	يَبْخُلُونَ	بِمَا	آتَاهُمُ	اللَّهُ	مِنْ
and	not	he thinks	those	they are niggardly	with what	he gave them	Allah	from

فَضْلِهِ	هُوَ	خَيْرًا	لَّهُمْ	بَلْ	هُوَ	شَرٌّ	لَّهُمْ
bounty	that is	good	for them	no	that is	evil	for them

سَيُطَوَّقُونَ	مَا	بَخَلُوا	بِهِ	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ
surely collar will be put upon them	that	they were niggardly	with which	Day	Resurrection

و	اللَّهُ	و	الْأَرْضِ	و	السَّمَوَاتِ	مِيرَاثُ	لِلَّهِ	و
and	Allah	and	earth	and	the heavens	heritage	for Allah	and

تَعْمَلُونَ	خَبِيرٌ
you do	well aware

وَا	لَا	يُحْسَبَنَّ	الَّذِينَ	يَبْخُلُونَ	بِمَا	آتَاهُمُ	اللَّهُ	مِنْ	فَضْلِهِ
اور	نہ	وہ گمان کریں	جو لوگ	وہ کججوئی کرتے ہیں	اس میں جو	اس نے انہیں دیا	اللہ	سے	اس کا فضل
هُوَ	خَيْرًا	لَهُمْ	بَلْ	هُوَ	شَرُّ	لَهُمْ	سَيِّئَاتِهِمْ	مَا	بَخِلُوا
وہ	بہتر	ان کے لئے	بلکہ	وہ	بُرا	ان کے لئے	غنقریب وہ طوق پہنائے جائیں گے	جو	انہوں نے بخل کیا
يَوْمَ	الْقِيَامَةِ	وَ	بِاللَّهِ	مِثْرًا	السَّلْوَاتِ	وَ			
دن	قیامت	اور	اللہ کے لئے	ترکہ	آسمان (جمع)	اور			
الْأَرْضِ	وَ	اللَّهُ	بِمَا	تَعْبَلُونَ	خَيْرٌ				
زمین	اور	اللہ	اس کا جو	تم کرتے ہو	خوب خبر رکھنے والا				

Al Taubah 9:75-77

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْا وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

And among them there are those who made a covenant with Allah, saying, 'If He give us of His bounty, we would most surely give alms and be of the virtuous.' But when He gave them of His bounty, they became niggardly of it, and they turned away in aversion.

So He requited them with hypocrisy which shall last in their hearts until the day when they shall meet Him, because they broke their promise to Allah, and because they lied.

اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کرے تو ہم ضرور صدقات دیں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔

پس جب اس نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور (اپنے عہد سے) پھر گئے اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔

پس عقوبت کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لئے نفاق رکھ دیا جب وہ اس سے ملیں گے بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی نیز اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

و	مِنْ	هُمْ	مَنْ	عَهْدًا	اللَّهُ	لَئِنْ	آتَانَا	مِنْ
and	among	them	who	he made a covenant	Allah	surely if	He gave us	from
فَضْلٍ	رَّحْمَةً	لِ	نَصَّدَقَنَّ	و	لَ	نَكُونَنَّ	مِنَ	الصَّالِحِينَ
bounty	His	surely	we give alm	and	surely	we be	from	virtuous
فَ	لَبَّأً	مِّنْ	فَضْلِهِ	بَخِلُوا	بِ			
but	when	from	His bounty	they were niggardly	with			
رَّ	و	تَوَلَّوْا	و	هُمْ	مُعْرِضُونَ			
it	and	they turned	and	they	those who are averse			
فَ	أَعْقَبَ	هُمْ	نِفَاقًا	فِي	قُلُوبِ	هُمْ	إِلَى	يَوْمِ
so	He requited	them	hypocrisy	in	hearts	their	until	day
يَلْقَوْنَ	هُمِ	كَا						
they meet	Him							
بِئْسَ	أَخْلَفُوا	اللَّهُ	مَا	وَعَدُوا	كَا	و	بِ	مَا
because	they broke	Allah	that	they promised	their	and	with	what
كَانُوا	يَكْذِبُونَ							
they were	they lie							
وَ	مِنْهُمْ	مَنْ	عَهْدًا	اللَّهُ	لَئِنْ	آتَانَا	مِنْ	فَضْلِهِ
اور	ان میں سے	جو	اس نے عہد کیا	اللہ	اگر	اس نے ہمیں دیا	سے	اس کا فضل
وَ	لَنَكُونَنَّ	مِنَ	الصَّالِحِينَ					
اور	ضرور ہم ہو جائیں گے	سے	نیک لوگ					
فَلَبَّأً	مِّنْ	فَضْلِهِ	بَخِلُوا	بِهِ	و	تَوَلَّوْا	و	هُمْ
پس جب	اس نے انہیں دیا	سے	انہوں نے بخل کیا	اس سے	اور	وہ پھر گئے	اور	وہ
مُعْرِضُونَ	إِعْرَاضِ	كَرْنِ	وَالِ					
	انہوں نے خلاف ورزی کی							
فَأَعْقَبَهُمْ	نِفَاقًا	فِي	قُلُوبِهِمْ	إِلَى	يَوْمِ	يَلْقَوْنَهُ	بِئْسَ	أَخْلَفُوا
پس اُس نے ان کو سزا دی	نفاق	میں	ان کے دل	تک	دن	وہ اس سے ملیں گے	اس وجہ سے	انہوں نے خلاف ورزی کی

يَكْذِبُونَ	كَانُوا	بِهَا	وَ	وَعَدُوا	مَا	اللَّهُ
جھوٹ بولنے والے	وہ تھے	اس وجہ سے	اور	انہوں نے اس سے وعدہ کیا	جو	اللہ

Al Mu'minun 23:5

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٥﴾

And who are active in paying the Zakat,

اور وہ جو زکوٰۃ (کا حق) ادا کرنے والے ہیں۔

فَاعِلُونَ	لِلزَّكَاةِ	هُمْ	الَّذِينَ	وَ
active in paying	for Zakat	they	those who	and

فَاعِلُونَ	لِلزَّكَاةِ	هُمْ	الَّذِينَ	وَ
ادا کرنے والے	زکوٰۃ کے لئے	وہ (جمع)	وہ لوگ	اور

An-Nur 24:57

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾

And observe Prayer and give the Zakat and obey the Messenger, that you may be shown mercy.

اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

الرَّسُولَ	أَطِيعُوا	وَ	الزَّكَاةَ	آتُوا	وَ	الصَّلَاةَ	أَقِيمُوا	وَ
Messenger	you obey	and	Zakat	you give	and	Prayer	observe	and

تُرْحَمُونَ	لَعَلَّكُمْ
you shown mercy	so that you

تُرْحَمُونَ	لَعَلَّكُمْ	الرَّسُولَ	أَطِيعُوا	وَ	الزَّكَاةَ	آتُوا	وَ	الصَّلَاةَ	أَقِيمُوا	وَ
تم پر رحم کیا جاتا ہے	تاکہ تم	رسول	تم اطاعت کرو	اور	زکوٰۃ	تم ادا کرو	اور	نماز	تم قائم کرو	اور

Ar-Rum 30:39-40

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْبِسْكَينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٩﴾
 وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ لَئِيْرُبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكٰوةٍ
 تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٤٠﴾

So give to the kinsman his due, and to the needy, and to the wayfarer. That is best for those who seek the favour of Allah, and it is they who will prosper. Whatever you pay as interest that it may increase the wealth of the people, it does not increase in the sight of Allah; but whatever you give in Zakat seeking the favour of Allah — it is these who will increase *their wealth* manifold.

پس اپنے قریبی کو اس کا حق دو نیز مسکین کو اور مسافر کو۔ یہ بات ان لوگوں کے لئے اچھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔
 اور جو تم سود کے طور پر دیتے ہو تا کہ لوگوں کے اموال میں مل کر وہ بڑھنے لگے تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تم جو کچھ زکوٰۃ دیتے ہو تو یہی ہیں وہ لوگ جو (اسے) بڑھانے والے ہیں۔

فَ	اَتِ	ذَا	الْقُرْبٰی	حَقَّ	ذٰ	و	الْبِسْكَیْنَ	وَ	اَبْنَ	السَّبِیْلِ
so	give	to	kinsman	due	his	and	the needy	and	son	of wayfarer
ذٰلِكَ	خَیْرٌ	لِّ	لَّذِیْنَ	یُرِیْدُوْنَ	وَجْهَ	اللّٰهِ	وَ	اُولٰٓئِكَ	هُمُ	
that	is best	for	those who	seek	favour of	Allah	and	those	they	
الْمُفْلِحُوْنَ										
prosper										
وَ	مَا	اَتَيْتُمْ	مِّن	رَّبِّ	لِ	یَرْبُوْا	فِیْ	اَمْوَالِ	النَّاسِ	
and	what	you pay	of	interest	so that	increase	in	wealth	of people	
فَ	لَا	یَرْبُوْا	عِنْدَ	اللّٰهِ	وَ	مَا	اَتَيْتُمْ	مِّنْ	زَكٰوةٍ	
so	not	increases	in sight of	Allah	and	what	you give	in	Zakat	

تُرِيدُونَ	وَجْهَ	اللَّهُ	فَ	أُولَئِكَ	هُمْ	الْمُضْعِفُونَ
you seeking	favour of	Allah	then	those of	they	who increase manifold
فَاتٍ	ذَا الْقُرْبَىٰ	حَقَّهُ	وَ	الْمَسْكِينِ	وَ	ابْنَ السَّبِيلِ
پس تو دے	قریبی	اس کا حق	اور	مسکین	اور	ابن السبیل
يُرِيدُونَ	وَجْهَ	اللَّهُ	وَ	أُولَئِكَ	هُمْ	الْمُقْدِحُونَ
وہ چاہتے ہیں	رضا/چہرہ	اللہ	اور	یہ لوگ	وہ (جمع)	کامیاب ہونے والے
وَ	مَا	آتَيْتُمْ	مِّنْ	رَّبِّا	لِّيَرْبُوَا	فِي
اور	جو	تم نے دیا	سے	سود	تاکہ وہ بڑھے	میں
الْمُضْعِفُونَ	هُمْ	فَأُولَئِكَ	اللَّهُ	وَجْهَ	تُرِيدُونَ	زَكَاةً
بڑھانے والے	وہ (جمع)	پس یہ	اللہ	رضا/چہرہ	تم چاہتے ہو	زکوٰۃ
عِنْدَ	اللَّهُ	يَرْبُوَا	عِنْدَ	اللَّهُ	عِنْدَ	اللَّهُ
پاس	اللہ	وہ بڑھتا ہے	پاس	اللہ	پاس	اللہ

Advanced Reading (Optional)

Commentary of Surah Al-Fatihah from Tafsir-ul-Kabir

سورة فاتحہ ، صفحہ 7 تا 9

<https://www.alislam.org/quran/view/?page=7®ion=T1>

Sūrah al-Fātiḥah is Part of the Qur'an

<https://www.reviewofreligions.org/22389/surah-al-fati%e1%b8%a5ah-is-part-of-the-quran/>

Tarteelul Quran / 5-minute Review

Keeping in mind the level of knowledge of members, please take **5 minutes in every class** to teach the rules of the **correct recitation** of the Holy Quran.

The following are resources that teachers/self-learners may find beneficial:

Qaidah Tarteelul Quran (Urdu) <https://www.alislam.org/urdu/pdf/Tarteel-ul-Quran.pdf>

Qaidah Tarteelul Quran (English) <https://www.alislam.org/quran/English-Qaida-Tarteel-ul-Quran.pdf>

Al-Tarteel – an English language MTA program teaching the correct pronunciation of the Holy Quran with Hafiz Fazle Rabbi (55 episodes) <https://www.alislam.org/media/program/al-tarteel/>

Note: Accompanying pdf of PPT for each episode available at alislam.org by searching “Al Tarteel Lesson [insert class number]”

Hadith for Class #1 / Importance of Zakat / زکوٰۃ اور اُسکی اہمیت

۲۸۸ — عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَمْرَأَةً
آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا
مَسَكَّتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ:
لَا، قَالَ: أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ
نَارٍ، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَالْقَتَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. (ابوداؤد كتاب الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلبي)

حضرت عمر و بن شعیبؓ اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ
 ایک عورت اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں آئی۔ اس کی بیٹی نے سونے کے بھاری کنگن پہنے ہوئے تھے۔ حضورؐ نے
 اس عورت سے پوچھا کیا انکی زکوٰۃ بھی دیتی ہو۔ اس نے جواب دیا۔ نہیں، یا
 حضرت! آپؐ نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے
 آگ کے کنگن پہنائے۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے کنگن
 اتار لیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش
 کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسولؐ کیلئے ہیں۔
 (جہاں چاہیں آپؐ خرچ فرمائیں۔)

Hazrat Amr Bin Shuaib^{ra} relates that his grandfather told him that a woman with her daughter came to see the Holy Prophet^{sa}. Her daughter was wearing very heavy gold bangles.

The Holy Prophet^{sa} asked her whether she paid Zakat on the bangles or not?

She replied that she did not. The Holy Prophet^{sa} said: "O Lady! Would you like that Allah makes you wear bangles of fire on the Day of Judgement?"

Hearing this, the woman removed the bangles from her daughter's hands. She presented the bangles to the Holy Prophet^{sa} and said: "I give these to Allah the Lord of Honour and Glory and His Messenger^{sa}". (Abu Dau'ud)

Source: [Hadiqatus Saliheen](#) #288 pg 323 & [The Ahmadiyya Gazette USA](#) January 2011, pg 3

Hadith for Class #2 / Importance of Zakat / زکوٰۃ اور اُسکی اہمیت

۱۳۹۷: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا
وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ
إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ
لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ
الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ
وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلِّي قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ
أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

۱۳۹۷: محمد بن عبدالرحیم نے مجھ سے بیان کیا، (کہا):
عفان بن مسلم نے ہم سے بیان کیا کہ وہیب نے
ہمیں بتایا۔ انہوں نے یحیی بن سعید بن حیان سے،
یحیی نے ابو زرعہ سے۔ ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: مجھے ایسے کام کا پتہ دیجئے
کہ جب میں وہ کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپؐ
نے فرمایا: اللہ کی عبادت کرو۔ اس میں کسی کو شریک نہ
ٹھہراؤ اور نماز فریضہ سنوار کر پڑھو اور مقررہ زکوٰۃ ادا
کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا: اسی
ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں
اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی خوشی ہو کہ جنتیوں
میں سے کسی آدمی کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔

Hazrat Abu Hurairah^{ra} relates,

A rustic came to the Holy Prophet^{sa} and said: “Messenger of Allah^{sa}, tell me what I should do so that I should enter Paradise.”

He^{sa} answered him: “Worship Allah and do not associate anything with Him, and observe Prayer, and pay the obligatory *Zakat*, and observe the fast of Ramadhan.”

The man said: “By Him in Whose hands is my life I will not add anything to this.”

When he turned away the Holy Prophet^{sa} said to those around him: “He who would be pleased to look at someone out of the dwellers of Paradise should look at that one” (Bokhari and Muslim).

Source: [Sahih Bukhari Kitabul Zakat #1397 pg 9-10](#) & [Gardens of the Righteous #1217 pg 210](#)

کشائش رزق کی دُعا

☆ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے آج رات آپ کی دُعا سنی اور جو الفاظ میں سُن پایا ہوں وہ یہ تھے حضورؐ نے فرمایا خوب دیکھ لو اس دُعا میں کوئی کمی نظر آتی ہے۔ اس دُعا کے الفاظ یہ ہیں:-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي رِزْقِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي -
(مسند احمد جلد 4 ص 63)

ترجمہ:- اے اللہ! مجھے میرے گناہ بخش دے اور میرا گھر میرے لئے وسیع کر دے اور جو کچھ رزق تو مجھے عطا کرے اُس میں میرے لئے برکت ڈال دے۔

Prayer for Prosperity:

Hazrat Abu Hurairah^{ra} relates that a person came to the Holy Prophet^{sa} and said, "O Messenger of God, I heard your prayer last night and these are the words I was able to hear."

The Holy Prophet^{sa} said, "Look carefully, do you see anything missing in these words".

The prayer is as follows:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي رِزْقِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي -

"O Allah, forgive my sins and enlarge my house for me. Bless every sustenance that You bestow upon me."

Source: [Khazinatud Dua](#) pg 136 & [Treasure House of Prayers](#) pg 118

Nisab (Quorum) of Zakat / Class #2

In Islamic teaching, a Muslim is obligated to [pay Zakat on certain items](#). For example, Zakat is obligatory on livestock, precious metals like gold, silver, etc and on all ornaments which are not in use for a year or so. *Nisab* (quorum) is a set threshold that determines if Zakat is to be paid or not. For example, if a person has **equal to or more than** 7.5 (87.5 grams) of gold or 52.5 Tolas (614.25 grams) of silver, then they are obligated to pay Zakat. For any cash savings that have not been used in a year or so, the Jama'at determines the *Nisab*. The rate of Zakat to pay is 2.5% of the **total value** of the item.

زیور پر زکوٰۃ

”جوزیور پہنا جائے اور کبھی کبھی غریب عورتوں کو استعمال کے لئے دیا جائے بعض کا اس کی نسبت یہ فتویٰ ہے کہ اس کی کچھ زکوٰۃ نہیں اور جوزیور پہنا جائے اور دوسروں کو استعمال کے لئے نہ دیا جائے اس میں زکوٰۃ دینا بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ اسی پر ہمارے گھر میں عمل کرتے ہیں اور ہر سال کے بعد اپنے موجودہ زیور کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور جوزیور روپیہ کی طرح جمع رکھا جائے اس کی زکوٰۃ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔“

(الحکم 17 نومبر 1905ء صفحہ 11)

The Promised Messiah^{as} says: "According to some people, Zakat is not payable on gold and silver which is worn and is sometimes given to poor women for use. And it is better that Zakat should be paid on jewellery which is worn but is not given to the poor. This is the practice of my family also. They pay Zakat on their jewellery every year. Furthermore, there is no disagreement about the payment of Zakat on jewellery which is kept safe like money." (*Al-Hakam* November 17, 1905)

(Source: [Fihul Masih](#) pg 221-222 & [An Introduction to Financial Sacrifice](#) pg 82-83)

Basic information about the payment of Zakat

Q: Can Zakat be paid before it becomes binding?

A: Yes.

Q: What is the time-limit for paying Zakat?

A: Zakat must be paid within one year of the day when it becomes payable.

Q: Does Zakat apply on the amount which has been given as a loan?

A: Zakat is not payable on the amount which has been given as a loan. However it will become payable one year after the said loan has been returned. Moreover money deposited in banks will not be considered as loan rather, it will be treated as savings.

Q: What is the procedure for paying Zakat on an amount preserved in a bank or elsewhere?

A: If the amount preserved is equal to or greater than the Nisab, then Zakat will become payable upon it after the completion of one year.

Q: Is Chanda a substitute for Zakat?

A: Chanda is no substitute for Zakat. Those upon whom Zakat is binding must fulfil this obligation.

Q: Is Zakat levied on all the items as a whole, or is it to be levied separately on each?

A: Zakat is not levied on all the items as a whole, rather it is levied on each item separately. Whenever an item is equal to or more than the Nisab (52.5 Tolas/614.25 grams of silver), Zakat will be levied on it.

Q: Will Zakat be levied on the total property or only that which exceeds the Nisab?

A: Zakat will be levied on the total amount. It is not sufficient to pay Zakat on that which exceeds the Nisab. For instance, if someone has 55 tolas of Silver, he shall pay Zakat on 55 tolas and not just on 2.5 tolas.

(Source: [An Introduction to Financial Sacrifice](#) pg 86-88)

The Promised Messiah's^{as} Book

THE ADVENT OF THE PROMISED MESSIAH

At a time when injustice, immorality and sin ran rampant, the religion of Islam dawned to revive the bond between humanity and its Creator, and to establish peace in the world. It was at the hand of the Prophet of Islam that an unparalleled moral and spiritual transformation took place. But the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, prophesied that a time would come when the true teachings of Islam would be forgotten and at this time a divinely appointed reformer would appear to rejuvenate Islam. In fulfilment of this prophecy, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him, appeared in Qadian, India, and claimed to be the divinely appointed reformer awaited by all the world religions.

This book comprises an address delivered by the Promised Messiah^{as}, in which he speaks about the purpose of his advent and what it means to be an Ahmadi.

مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام: احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے؟

روحانی خزائن جلد 20

To read this book in English, please click here: <https://www.alislam.org/book/advent-promised-messiah/>

Advanced Reading (Optional)

*Are you finished the assigned book above?
We invite you to learn more about the importance of Salat below*

ملفوظات - جلد 9: "زکوٰۃ" صفحہ 124 تا 125

"The Paying of Zakat", *Essence of Islam* Vol. 2, [pg 317-318](#)

Khilafat Ala Minhajun Nabuwwah / History of Khilafat

Link to Book: <https://www.alislam.org/urdu/pdf/Khilafat-ala-Minhaj-un-Nubawt-2.pdf>

Class 1: **Vol 2 page 358 to 360**

Class 2: **Vol 2 page 363 to 365**

Advanced Reading (Optional)

*We encourage you to learn more about the importance of Khilafat.
Please click on the title to read the book.*

[Nubuwwat & Khilafat \(Prophethood & Its Successorship\)](#)

A collection of speeches compiled by the Ahmadiyya Muslim Community

Pearls of Wisdom / Guidance of Khilafat / Class #1

Please watch the following two video clips to learn the guidance of Hazrat Khalifatul Masih V^{aa} on these important questions.

What is Islamic standpoint regarding Socialism? Is Zakat also a form of Socialism?

<https://youtu.be/ivMeJ2pTu2A> (length 5:25)

No Donation accepted from Unlawful earnings

<https://youtu.be/AxmKrgslaQU> (length 1:51)

Tabligh Activity / Class #1 / 5 min Overview by Secretary Tabligh

This month members are encouraged to:

Please make efforts to increase your one-on-one communication with your contacts and invite them to the upcoming interfaith symposium. It can be co-workers, neighbours, teachers, or friends.

What's the best way to do this?

While it's easy and convenient to write an email or text, research has shown that this is the least effective way to communicate with others, as it's impersonal and can be easily overlooked. Instead, **it's more effective and better to meet with our contacts in-person** and then invite them to the Symposium – we're more likely to get a positive response this way. Because you took the time and effort to speak to them face to face, they will make the effort to come Inshallah.

What Should We do? / Class #2/ 15 min Tarbiyati Discussion

Zakat is one of the pillars of Islam and it's payment is a commandment of Allah that is repeatedly emphasized throughout the Holy Quran, second only to the observance of Salat. However, many Muslims are not aware of it's importance and blessings. Due to this lack of knowledge, sometimes people wonder:

If I've paid my chanda or given sadqah (charity), why do I have to pay Zakat?

Note to Teachers: In order to have a beneficial and engaging discussion, please review the teaching guide resources below and prepare your own notes.

Self-Study/Teaching Guide

Click on each reference below to learn more

This question is important, because a lack of understanding of the importance and blessings of Zakat can lead a person away from Islam and attaining the nearness of Allah.

Zakat is **not** a chanda, but it is a form of *sadqah* (charity) that Allah commands us to pay. Like Salat or fasting, paying Zakat is a pillar of Islam. Zakat is obligatory and must be paid by every Muslim man and woman on whom it applies.

زکوٰۃ کا نام رکھنے کی وجہ

فرمایا:

زکوٰۃ کا نام اسی لئے زکوٰۃ ہے کہ انسان اس کی بجا آوری سے یعنی اپنے مال کو جو اس کو بہت پیارا ہے لٹہ دینے سے بخل کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے اور جب بخل کی پلیدی جس سے انسان طبعاً بہت تعلق رکھتا ہے انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ کسی حد تک پاک بن کر خدا سے جو اپنی ذات میں پاک ہے ایک مناسبت پیدا کر لیتا ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 203، 204)

The Promised Messiah^{as} says: "Zakat is so called because when man gives Zakat—gives away his beloved possessions for the sake of God— he is freed from the impurity of miserliness. And when the impurity of miserliness—which man is naturally prone to—departs from within a person, he attains a certain degree of purity and so acquires an affinity with God who is Holy in His Being." (Source: [Fihul Masih](#) pg 221 & [Barahin-e-Ahmadiyya Part V](#), English Translation, pg 283)

In [The Philosophy of Zakat](#), we read: "According to the law of Islam one has to pay 2.5% of one's cash money, capital, stock and tradeable assets, including jewelry in gold and silver of which one was in possession for one full year, provided that one had more than the assessable limit. This is paid to help the poor and the needy, as has been commanded by the Holy Quran and explained and put into practice by the Holy Prophet himself, peace and blessings of Allah be upon him.

It must be remembered that Zakāt is not an income tax which is levied on one’s income. But it is levied on one’s **savings** and is spent wholly for the benefit of the poor and the needy. Islam has imposed Zakāt on wealth and properties which have the attribute of increasing and multiplying and which could also be preserved safely, for which reason it is assessed every year during which one has had ample chances of spending. It is on this principle that gold, silver, cash in any shape or form, business stock, goats, sheep and cattle which feed themselves by grazing and all the produce from the land are assessable for Zakāt. But no Zakāt is to be paid on land, houses for personal residence, and other goods in daily use. Fruit and vegetables are not assessable.”

Clearly, Zakat leads to the moral and spiritual betterment of an individual person as well as the betterment of society as a whole. Remember that the Holy Prophet^{sa} has said “Verily, a time comes, when people will find it a burden to pay Zakat on their belongings” (Kinzul ‘Umal, Kitabul Zakat). May we always be eager to pay our Zakat and attain the nearness of Allah through our financial sacrifices made in His way. Ameen!

1. [The Philosophy of Zakat](#) by Sheikh Mubarak Ahmad
2. [An Introduction to Financial Sacrifice](#) (مالی قربانی ایک تعارف)
3. “What is the proper way to pay Zakat? And is it necessary to pay Zakat on gold jewellery and other items?” [Faith Matters #78](#)